

# شکینہ رین ئیسلامی

محمد بن عبدالوہاب



وہرگیان

شیخان شیخہ میری

# شکینہ ریّن ئیسلامی

نقیسین

محمد بن عبدالوهاب

- رحمه الله -

وہرگیّران ب دەستکاریفہ

شیخان شیخہ میری

ناقئ پھرتوکی: شکینہ ریڻ ئیسلامی

ناقئ نقیسہ ری: محمد بن عبدالوہاب

ناقئ وہرگیپی: شیخان شینخہ میری

دیزاینہ بہرگی: بابئ مہلہ کی

چاپا: ئیکئ ۱۴۴۴ مش ۲۰۲۲ ز

**مافین چاپئ پاراستینہ بو سائتی مزگہفت**



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد:

ئەھلى زانينى بەھسى شكینہریت ئیسلامی یان پویچکەرین ئیسلامی بیٹ کرین، یی کارهکی ژفان بکەت دئ ژ بازنہیا ئیسلامی دەرکەفیت بەرەف کۆفری، داخازا سلامەتی وپاراستنی ژ خودی دکەین، ئەم دئ بەھس کەین بو زانینى وهشیاربوونی و خو ژئ دویرئیخستنی

ئەفا نوکە ل بەر دەستی مە نامەیکە ژ نامەیین پر بەایین شیخی ئیسلامی موھەمەدی کوری عبدالوھابی تەمیمی بناقی (نواقض الاسلام) ، شکینہرین ئیسلامی ، ئانکو : ئەو تشتین ئیسلاما مروقی پویچ دکەن و بەتال دکەن، وەکی شکینہرین دەست نفیژی، کا چاوا دەست نفیژا مروقی ب ہندەك تشتا دکەفیت وەسا ئیسلاما مروقی ژى ب ہندەك تشتا پویچ دبیت ودشکیت فیجا چ گوتن بن یان کریار بن یان بیروباوہر بن ، فیجا نیاسینا فان شکینہرا گەلەك گرنگە بو موسلمانى دا کو ژئ ہشیار بن وخو ژئ دویر بیخن ، چونکی ھەکە موسلمانى نہ نیاسی دبیت بکەفیتە د تشتەکی ژ وان دا وئەفە گەلەکا ب مەترسییە ، چونکی ئەو شکینہرین ئیسلامی نہ وپویچ کەرین وی نہ، وزانینا ئەگەرین دەرکەفتنا ژ ئیسلامی گەلەك گرنگن.

و (الردة): ژ ئیسلامی: رامانا زفرینا ژ ئیسلامی ددهت،  
ئانکو: پشتی هاتیہ د ئیسلامی دا ژئی دهر بکهفیت .

خودایی مهزن دبیژت: **(ولا ترتدوا علی اءبارکم فتنقلبوا  
خاسرین)** المائدة: ۲۱

و د حهدیسی دا یی هاتی :

پیغهمبهر سلاف لی بن دبیژت: **(لا یحل دم امرئ مسلم إلا  
بإحدى ثلاث: الثیب الزانی، والنفس بالنفس، والتارك لدينه  
المفارق للجماعة)** البخاری ۶۸۷۸، مسلم ۱۶۷۶ .

ئانکو: یا حلال نینه و دروست نابیت خوینا موسلمانهکی  
بهیته ریتن ژبهر فان همر سیکا نهبت : ژنا شوپکری  
وزهلامی خودان ههقرین دههمهن پیسیی بکهن، ونهفس ب  
نهفسی، ویی دینی خو بهیلت و خو ژ کوما موسلمانا  
قهکمت.

و پیغهمبهر سلاف لی بن دبیژت: **(من بدل دینه فاقتلوه)**  
البخاری: ۷۵/۴. و ابو داود ۴۴۰/۲ و الترمذی ۲۴۳/۶ و احمد  
۲۸۲/۱ .

ئانکو: یی دینی خو بگوهورت بکوژن.

وبی گومان کو شکینہرین ئیسلامی نه بتئی دهن بهلکو  
پترن بهلی شیخی بهحسی دههان کر کو ژ ههمیا گرنگترن  
ومہزنترن و دبنه بنیات وبنهما بو ییت دپتر ههمیا ، ویا  
غریب نینه شیخی بهحسی فی بابہتی کری وهکی گلهک

هزر دکن ، چونکی ئەف بابەتە ب دریزی و بەر فرە هی یی د  
 هەمی کتیبیت فقی دا هاتیە کرن د دەرگە هی (حکم  
 المرتد)دا.

وبەلکی نوکە ھندەک ھەبن کو بیژن خەلکی کافر نەکن  
 و بەحسی قی بابەتی نەکن ، بەسە ناقتی ئیسلامی ل سەر  
 خەلکی بت، ما دەم دیژن ئەم موسلمانین موسلمانن خو  
 ھەکە چ کارو کریان بکن ، تشتەکی بو غەیری خودی  
 سەرژیکەن، خەبەرا بیژنە خودی عزوجل و پیغەمبەری وی  
 سلاقی لی بن، دوعا ژ غەیری خودی بکن ، مادەم دیژت  
 ئەز موسلمانم کافر نەکە ، وبقی چەندی گۆرپەرست  
 ورافیزە وقەرەمطە وقادیانی و ھەر کەسی بانگەشا ئیسلامی  
 دکت دی ھیتە د ئیسلامی دا.

و دیژن کەسی کافر نەکن خو ھەکە چ بکن و بیروباوەرین  
 وان چ بن، و بەس موسلمانا ژیکفەکن ، سبحان الله ! ئەم  
 موسلمانا ژیکفە ناکەین ، بەلی ئەقین ھەنی نە موسلمانن،  
 چونکی ئەفە یین توشی شکینە ریڻ ئیسلامی بووین.

قیچا پەیف و گوتتا دناقبەرا موسلمانا دا ژیکفە نەکن ،  
 پەیفەکا حەقە وراستە بەلی مەرەما وان پی باطلە، چونکی  
 دەمی پشتی مرنا پیغەمبەری سلاقی لی بن ھندەک ژ عەرەبا  
 مورتەد بووین و ژ ئیسلامی دەرکەتین صەحابیا شەری وان  
 کر، ونەگوتن: موسلمانا ژیکفەنەکن ، چونکی ئەو نە  
 موسلمانن ھندی ئەو مورتەد بن .

ویین ھین دبیزن ھرن بہر سینگئی مولحدا بگرن وفان  
کھسین دبیزن ئەم موسلمانین بھیلن.

ئەم دبیزینە وان ئەقە مەترسیترن ژ مولحدا ، چونکی مروقی  
مولحد بانگەشا ئیسلامی ناکەت، ونابیزن ئەوا ئەم ل سەر  
ئیسلامە ، بەلئی ئەقیت ھەنئ خەلکی ب سەرا دبەن و  
دخاپینن وھوسا دیار دکەن کو کوفر ئیسلامە، ژبەر ھندی  
ئەقە مەترسیترن ژ مولحدا ، و دەرکەفتنا ژ دینی خرابترە ژ  
ئیلحادی \_خودی مە بیاریزت\_ قیجا پیدقیبە ئەم ھەلوستی  
خو بزانین ژ فان کارا وجوداھیئ بیخینە دناقبەرا واندا  
ودیار بکەین، چونکی نوکە ئەم بین د کورە کرنئ دا، و ھندەک  
خەلکی ھەمی دنقیسن ورمخنی دگرن، و دەرسا ددەن و دبیزن:  
موسلمانا کافر نەکەن.

و ئەم دبیزن: ئەم وی کافر دکەین یئ ژ ئیسلامی دەرکەتی ،  
و ھندی موسلمانە ناچیبیت بھیتە کافر کرن.



وی کریهہ ناگر، وچو پشتہفانہک وی نابت وی ژئی رزگار بکمت.

و لوقمان د وہسیہتا خودا دبیزیتہ کورئ خو : ( **يٰۤاَيُّهَا لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ** (۱۳) لقمان.

ئہی کورکئی من تو شرکئی ب خودئ نہکہ نہگہر دئ زورداریئی ل خو کہی؛ چونکی ہندی شرکہ کرینتترین ومہزنتترین گونہہہ.

وقئی شرکئی چہند شیوہ ورہنگ بیت ہین، ژوان: عہد تہتہکئی ژ عیبادہتی بو ئیکئی دی بکمت ژبلی خودئ، وہکی: نہزرکرنئ، یان سہرژیکرنئ بو غہیری خودئ وہک سہرژیکرنا بو ئەجنا یان بو قہبرا، یان ژبلی وان ژئی.

شکینه ری دووی : بی کو هه فگینه کی "واسطه کی" بکته دنابهره خو و خودایی خودا دوعا ژوان بکته و داخازا مهدهری ژ وان بکته و پشته خو ب وان گهرم بکته " تهوه کو لا خو دانیته سهر وان" بی گومان ب ئیک دهنگی نهو کافر بوو

خودایی بلند دبیژیت: (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ (۳) الزمر.

نی گوهدانا ساخلم وپاراستی ژ شرکی بو خودی ب تنییه، وئوین شرک ب خودی کری وژبلی وی هندهک سهرکار بو خو داناین، نهو دبیژن: ههما نهم پهرستنا فان خوداوهندان د گهل خودی دکهین دا نهو مهدهری بو مه ل نک خودی بکن، ودا نهو مه نیژیکی وی بکن، قیجا ب وی چهندی نهو کافر بوون؛ چونکی پهرستن ومهدهر بو خودی ب تنییه، هندی خودییه نهوه ل روژا قیامهتی حوکی د نابهره خودان باوه رین دلساخ و بوتپه ريسان دا د وی تشتی دا دکته بی نهو تیدا ژیک جودا دبن، قیجا نهو جزایی هس ئیکی بی هیژای وی بت ددهتی. هندی خودییه بهری وی نادهته ریکا راست بی درهوی ل سهر ناقی خودی بکته، وگلهک کوفری ب نایهت وهیجه تین وی بکته.

و خودایی بلند دبیژیت: (وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ  
وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ (۱۰۶) یونس.

وتو -ئهی پیغمبهر- ژ بلی خودی گازی ودوعایان ژ ئیکی  
دی نهکه، نه ژ صهنمان ونه ژ چو خوداوهندان؛ چونکی نه  
ئهو چو مفایی دگههینن ونه چو زیانی، قیجا ئهگهر ته وه کر  
و ژ بلی خودی ته دوعا ژ وان کر ئهو هنگی تو دی ژ  
موشرکان بی، بین ب شرک ونهگوهارییی زورداری ل خو  
کری.

**شکینہ ریڻ سیی:** یی مؤشکا ب کافر نہدانیت ، یان ب گومان بکھفت د کوفرا وان دا ، یان ریڻک و ریبازا ب دروست دانیت، چونکی خودایی پیروژ و بلند دگلهک نایهتان دا ئهو یین ب کافر ل قهلم داین و فرمانا کری ب دؤژمناتی کرنا وان ژبهر درهو پی کرنا وان ب خودی، و حوکم ب ئیسلاما مروقی ناهیته دان همتا کو مؤشکا ب کافر نہبینت، قیجا ههکه دئی چندی دا راهستیا ، یان ب گومان کهفت د کوفرا وان دا دگهل دیارکرنا وی بو وی ، ئهو ژی وهکی وانه.

وئهو ی ریڻک و ریبازا وان ب دروست دانت ویا ئهو ل سهر ژ کوفری ب باش وچاک ببینت ئهو دی کافر بت ب ئیک دهنگییا موسلمانا "اجماع المسلمین" چونکی هندی ئیسلامه خو رادهستکرنه بو خودی ب تهوحدی " ئیکتاپرستی" و خو شکاندن بو وی ب گوهداریی ، و خو بهریکرن ژ شرکی و ئههلی وی.

وئهی حز ژ مؤشکا کر وسهرئیخستن شوینا وان ب کافر دانیت، خودایی بلند دبیزیت: **(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (٢٥٦) البقرة.

هندي ئهف دینهیه یی پیکهاتییه ونیشانین وی د ناشکرانه وی پیئقی ب هندی نینه کو کوتهکی ل خهکی بیتهکرن دا

بینہ تیدا، نیشان د نأشکھرانہ حەقی ونەحەقی وریکا دورست  
وبەرزهوون پی ژیک جودا دبن. قیجا هەچیئی کافرایی ب  
وان هەمی تشتان بکەت بیین ژبلی خودی پەرستن بو  
دئیته کرن وباوهریئی ب خودی بینت، ئەو ل سەر ریکا  
باشتر موکم وسەرراست بوو، ووی خو ب وهریسی نەئیته  
برین قە ژ دینی گرت. و خودی گوھ ل گۆتتین بەنیین خو  
هەیه، ئەو ب ئنیەت وکریارین وان یی زانیە، ودی جزایی  
وان سەرا دەتی.

**شکینہ ری چاری :** یی بیروباوہ ریڻ ئہو بت کو غہیری ریبار و سوننہتا پیغہمبہری صلی اللہ علیہ وسلم تمامترہ ژ ریبار و سوننہتا وی ، یان ژی حوکی غہیری وی چیتہ ژ حوکی وی ، وہکی وان ییت حوکی طاغوتا " ئہوین ژبلی خودی دھینہ پھرستن وحوکم پی کرن" ب سہر حوکی وی دئیخن وباشتر لی دکهن.

نمونا فی چندی بو وان یین دبیزن: جیبہجیکرنا حوکی خودی د رجم کرنا دہمہن پیسی موحصن دا "محصن: ئہو زہلامی خودان ژن ، وئہو ژنا شویکری" یان برینا دہستی دزیکہری نا گونجن دگہل فی سہردہمی نوکہ، چونکی زہمانی مہ یی ہاتیہ گوہورین ژ زہمانی پیغہمبہری صلی اللہ علیہ وسلم ، یان ژی ہندہک حوکمین دی وہکی وانن یان ژوان چیترن

و خودایی بلند دبیزیت: **(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥) النساء.**

خودایی مہزن ب خو سویند خواریہہ کو ئہوین ہہ ب دورستی باوہرییی نائینن ہتا ئہو تہ د ژینا تہ دا د وی تشتی دا بکہنہ حکمہ یی ہہقرکی سہرا د ناٹہرا وان دا پھیدا دبت، وپشتی مرنا تہ ژی سوننہتا تہ بکہنہ حکمہ، پاشی ئہو د دہر حقا وی دا یا تہ فہرمان پی دای چو دلتہنگیہکی ل نک خو نہبینن، و د گہل ہندی ژی ئہو ب

دورستی خو ب دست فہ بہر دهن، وحوکمکرنا ب وی تشتی  
ی پیغہمبہری خودی سلاف لی بن پی ہاتی ژ کیتاب  
وسوننتی د ہمی لایین ژینی دا، د گہل رازیوون و خو ب  
دہسقبہر دانی، ژ کاکلکا باوہریبیہ.

**وَبْنِ الْقِيمِ رَحْمًا خُودِي لِي بَت دَبِيْزَت:**

وَاللّٰهِ مَا خَوْفِي الدُّنُوْبَ فَاِنَّهَا ...

لَعَلِّي سَبِيْلِ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ

لَكِنَّمَا اَخْشَى اَنْسِلَاخَ الْقَلْبِ عَنْ ...

تَخْكِيْمِ هَذَا الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ

وَرِضَى بِاَرَاءِ الرَّجَالِ وَخَرَصِيْهَا ...

لَا كَانَ ذَاكَ بِمِنَّةِ الْمَنَانِ

ئانكو:

ب خودی ترسا من نہ ژ گونہہایہ چنکی ئہو یی ل سہر  
ریکا لیبورینی و ژیرنی نہ ، بہلی دترسم ژ رامالینا دلی ژ  
حوکمکرنا بقی و ہحیی و قورنائی ، و رازیوون ب بیرو  
بووچونیت زہلاما ودرہوین وان، نہخیر ئہو نابیتن ب  
مننت وکەرما خودان مننتی قہنجیکار.

وژوان ژى خودانیت یاسایین دهست چیکری ، بین کو کرینه شریعت و ریپاز و مهنه ج ول سهر دچن ، و خه لکی ژى پی پیگیردکن، خودایی بلند دبیژیت: ( **أَفْحَمَ الْجُهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ** ) (۵۰) المائدة.

ئهری ما ئهوان جو هییان دقیت تو ب وی تشتی حوکمی د ناقبهر ا وان دا بکهی یی صهنه مپهریس ل سهر دچن ژ نهزاین و سهر دا چوونان؟! وکی د حوکمی خو دا ژ خودی دادکهر تره بو وی یی د شریعتی خودی گه هشتی و باوهری پی ئینای، وزانی کو حوکمی خودی حهقییه؟

و خودایی بلند دبیژیت: ( **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** ) (۴۴) المائدة.

وئهوین حوکمی خودی یی وی د کیتابا خو دا ئینایه خواری گوهارتی، وئهو فهشارتی، و باوهری پی نه ئینای، و کار ب حوکمهکی دی کری، ئهون بین کافر.

**شکینہ ریڻ پیڻجی:** یی کهر بیٽ وی ژ تشته کی قہبت یی کو پیڻغہمبہر صلی اللہ علیہ وسلم پی ہاتی ، خو ہہکہ کار ژ ی پی بکہت دی کافر بت.

وئہفہ ب ریگہفتنا زانایا ، ودوو رویا بہہرا شیر ی ژ فی سہخلہتی یی ب دستخوۓ ئینای، وئو کار ب ہندہک شہریعتین ئیسلامی یین بہرچاٹ دکن ، بہلی د نہپہنیی دا کہرب وکینی بہرامبہر شہریعتی ئیسلامی و ئہہلی وی قہدشیرن ، وچاقری نہخوشی وئاتافانہ ب سہری موسلمانا دا بہین، خودایی بلند دبیژیت: **(اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ (۱) المنافقون.**

ئہگہر دوروی ہاتنہ دیوانا تہ -ئہی پیڻغہمبہر- ئو ب ئہزمانی خو دبیژن: ئہم شاہدہیی ددہین کو تو پیڻغہمبہری خودیی، خودی دزانت کو تو پیڻغہمبہری ویی، خودی شاہدہیی ددہت کو دوروی د فی شاہدہییا خو دا یا ئو بو تہ ئاشکرا دکن، وسویندی ل سہر دخن درہوینن.

و خودایی بلند دبیژیت: **( وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ نَخْلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (۶۱) المائدة.**

وئہگہر دورویین جوہیان ہاتنہ نك ہہوہ -گہلی خودان باوہران- ئو دی بیژن: مہ باوہری ئینایہ، وئو ب خو ہہر یین ل سہر کوفرا خو، ب کوفرا خو قہ یا کو ئو د دلین

خو دا قہدشیرن ئەو ب سەر ھەوہ قہ ھاتبوون، پاشی ھەر ب وی قہ ئەو دەرکەفتبوون و ل سەر وی درژد بوون، و خودی ب نھینیین وان زانترە، ئەگەر خو ئەو تئستەکی دی ئاشکەرا بکەن زی.

و خودایی بلند دبیزیت: ( **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيُطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ** ) (١٤) البقرة.

وگافا ئەف دوڕویبە دەھاننە راستا خودان باوهران وان دگۆت: مە وەکی ھەوہ باوهری ب نیسلامی ئینایە، وئەگەر ئەو چوونە نك مەزنین خو ژ کافرین سەرداچوویی و دگەل وان مانە ب تئی، ئەو وان پشتراست دکەن کو ئەو ھێشتا یی ل سەر کو فری، وھەما وان یاری بو خو ب خودان باوهران دکر.

وحوکمی ھاتیە دان ل سەر وی کەسی کەربین وی ژ تئستەکی قەبن یین کو پیغەمبەر پی ھاتی صلی اللہ علیہ وسلم ب کو فری و سەرداچوونی، وکو کاروکریارین وان ھەمی پویچ و بەطالن و دی ل وان ھینە زفراندن.

خودایی بلند دبیزیت: ( **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ** ) (٩) محمد.

وئہوین کافر بووین تیچوون بو وان بت، و خودی خیرا کریارین وان پویچ کر. چونکی وان ب کیتابا خودی یا بو پیغمبرئی وی هاتی نهخوش بوو، وباوهری پی نهئینا، قیجا خودی کریارین وان پویچکرن؛ چونکی ئهو بو ریکا شهیتانی بوون.

قیجا هر ئیکی کهرب قهبن ژ وی یا خودی ئینایه خواری دی کارو کریاریت وی پویچ بن، و خو ههکه کار ب وی بکمت ژی ئهوا کهر بیت وی ژیفه بووین. خودایی بلند دبیزیت: **(دَلِكْ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ (۲۸) محمد.**

ئهو عزابا ئهو گه هشتینی؛ ژ بهر هندیه چونکی وان دویکهفتنا وی تشتی کر یی خودی پی ژ وان عیجز ببت، و وان کهرب ژ وی تشتی قه بو وی خودی پی ژ وان رازی ببت ژ کریارین چاک وهکی جیهادا د گهل کافران، قیجا خودی خیرا کریارین وان پویچ کر.

شکینہ ری شہشی: ہر کہسی یاریا و ترانا ب تشتہ کی بکہت ژ دینی پیغمبری صلی الله عليه وسلم یان پاداشتی وی یان سزایی وی ئەو دئی کافر بت، و بەلگه ژ ی گوتنا خودایی بلندە دبیریت: **(وَأَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (٦٥) لَا تَعْتَدِرُوا فَمَا كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَدِّبُ طَائِفَةٌ بَأْتُهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦) التوبة.**

وئەگەر تو -ئە ی پیغمبر- پسارایا وی تشتی ژ وان بکە یی وان د دەر حەقا تە و هەقائین تە دا دگوت ئەو دئی بیژن: مە چو مەخسەد ب وی گوتتی نەبوو یا مە گوتی، تو -ئە ی پیغمبر- بیژە وان: ئەری هەو بە خودی و ئایەتین وی و پیغمبری وی یاری دکرن؟ هوین -ئە ی گەلی دورویان- داخووزا لیبۆرینی نەکەن چو مفا د داخووزا هەو دا نینە؛ چونکی هوین ب قی گوتتا خو یین کافر بووین، ئەگەر ئەم ل دەستەکەکی ژ هەو ببۆرین یا کو داخووزا لیبۆرینی کری و ژ دل تۆبە کری، ئەم دئی دەستەکەکا دی عەزاب دەین ژ بەر وی تاوانا وان کری کو ئەف گوتتا خراب کری.

قیجا هندی یاری پیکرنە ب تشتەکی پیغمبر صلی الله عليه وسلم پی هاتی کوفرە ب کۆدەنگیا مؤسلمانا خو هەکە مەرەما وی نە راستیا ترانە و یاری پیکرنی ژ ی بت، هەر وەکی وی ب خوشی و سۆحبەت قەژی کربت.

و خودی بلند بهحسی حال وسهروبهری یاریپیکر و تورانه  
پیکرا ب خرابترین شیوه یی کری

خودایی بلند دبیژیت: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ  
ءَامِنُوا يَضْحَكُونَ (۲۹) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (۳۰)  
المطففين.

هندی ئەون یین تاوانباری کری د دنیایی دا ترانه بو خو ب  
خودان باوهران دکرن. وگافا ئەو د بهر وان را دبورین وان  
ب چاقان یاری بو خو پی دکرن.

و خودایی بلند دبیژیت: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۷۹)  
التوبة.

و د گهل قهلسییا دوروییان خیرکەر ژ نهخوشییا وان خلاس  
نابن؛ وئەگەر دەولەمەندان ب مالەکی مەزن خیرکەر ئەو دی  
ب ریمەتییی وان گونەهبار کەن، وئەگەر هەزاران ل دویف  
شیانا خو خیر دان، ب ترانه قه ئەو دی بیژن: چ مفا د قی  
خیرا وان دا هەیه؟ خودی یاری ب قان دوروییان کرییه،  
وعزابهکا ب ئیش بو وان هەیه.

و خودایی بلند ئەم یین پاشقەلیداین کو دگهل قان تورانهکەرا  
بروینینه خاری، وەر کەسی دگهل وان روینته خاری ئەو  
وەکی وانە،

خودایی بلند دبیڑیت: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكُتُبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ أَنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (۱۴۰) النساء.

و ب راستی خودایی هموہ -گہلی خودان باوہران- بو ہموہ د کیتابا خو دا ئینایہ خواری کو ئہگہر ہموہ گوہ لی بوو کافری وترانہ ب ئایہتین خودی بینہکرن ہوین د گہل وان کافران نہروینن، ہنگی تی نہبت ئہگہر وان گوٹنہکا دی ژ بلی کوفری وترانہکرننا ب ئایہتین خودی بکنن، ئہگہر ہوین د گہل وان روینشتن، وئہو ب وی رہنگی بن، ہوین ژی دی وہکی وان بن؛ چونکی ئہو ہوین ب یاریپیکنر وکوفرا وان رازیبوون، وئہوی ب گونهہی رازی ببت وہکی ویبہ یی گونهہی بکہت. ہندی خودیہ کو مکرری دوروی وکافران ہمیبیانہ د ئاگری جہنہمی، دا ئہو تیدا عہزابا نہخوش ببینن.

شکینہ ریڻ **حہفتی**: سحر و ہر ژوی صہرف و عطف  
ژی یئ نئجام بدہت یان پی رازی بت دی کافر بت

خودایی بلند دبیزیت: (وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ  
سُلَيْمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  
السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَكِينَ بِبَابِلَ هُرُوتَ وَمُرُوتَ وَمَا  
يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ  
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ  
بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ  
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ  
مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۱۰۲) البقرة.

جوهییان دوچوونا وی تشتی کر یئ شہیتانان ل سہر  
دہمی سولہیمانئ کورئ داوودی بو سیرہبہندان دگوت.  
وسولہیمان کافر نہبوو بو و خو فیری سیرہبہندیئ  
نہکربوو، بہلکی شہیتان بوون یئ کوفر ب خودئ کری  
دہمی وان مروٹ فیری سیرہبہندیئ کرین؛ دا دینئ وان  
خراب بکن. و ہر و ہسا جوهییان دویکہفتنا وی  
سیرہبہندیئ کر ئەوا بو ہردو ملیاکہتین ل عہردئ  
(بابل)ئ ل (عیراق)ئ ہارووت و مارووتی ہاتیہ خواری؛  
بو جہرباندنا بہنییان ژ لایی خودئ قہ، وئو ہردو فریشہ  
سیرہبہندیئ نیشا کہسئ نادہن حہتا ئەو وی شیرہت نہکن  
ووی ژ خو فیر کرنا سیرہبہندیئ پاشقہنہبن، ونہبیزئ: ب  
خو فیر کرنا سیرہبہندیئ وگوہدارییا شہیتانان کافر نہبہ.

فَیْجَا مَرْوَفٌ زُ وَا ن هَردو فریشتہ یان فِیْری وی تَشْتِی دین  
 یی نہ فِیانی پئی دئیخنہ د ناقہرا ژن ومیران دا؛ دا ئہو  
 ژیکفہ بن. وسیرہ بند نہ شین بی ئانہ هیبا خودی ب  
 سیرہ بندیبا خو زیانی بگہ ہینہ کھی، و ہما سیرہ بند ب  
 تئی فِیری وی تَشْتِی دین یی خرابی وزیان پئی دگہ ہتہ وان،  
 وشہیتانان ئہو بو جوہیان فہ گواہاست، فِیجا ئہو ہند د نا ف  
 وان دا بہ لاقبوو حتا کو وان ئہو ژ کیتا با خودی چیرت  
 دیتی. وجوہیان زانی کو ہچیی سیرہ بندیبی ہلبزیرت  
 وحقیقی بہیلت ئہوی ل ئاخرہ تی چو بار د خیری دا نابت.  
 و چ پیسہ تَشْتِ بوو کو وان خو پئی کری کو باوہری  
 ودویکہفتنا پیغہ مہری دایہ ب سیرہ بندیبی وکوفری، ئہ گہر  
 وان زانینہ ک ب وی ہبا یا شیرہ ت پئی ل وان ہاتیہ کرن.

**صہرف:** دویر نیخستنا زہلامی ژ وی تَشْتِی حہز ژئی  
 دکہت، بو نمونہ: دویر نیخستنا وی ژ حہز ژیکرن و فِیانا  
 وی بو ژنا وی بہرہ ف کرب فہبنا وی .

**وعطف:** ئہوژی کارہ کی سحر بازیہ و ہکی صہرفی، بہلی  
 دقیری دا لادانا زہلامی ژ وی تَشْتِی نہ فیت و حہز ناکہت بو  
 حہز ژیکرنا وی، و سحر یا حہرامہ ب ہمی ریکین وی  
 فہ و د ہمی شہریعتان دا.

شکینہ ری ہشتی: پشتهقانی و ہاریکاریکرنا مؤشرکا ل  
 سہر مؤسلمانا ، وبہلگہ ل سہر قی چہندی ، خودایی بلند  
 دبیریت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى  
 أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) المائدة.

ئہی ئہوین باوہری ئینای، ہوین جوہی وفہلان بو خو  
 نہکنہ پشتهقان و ہہفہپیمان دژی خودان باوہران؛ چونکی  
 ئہو ہز ژ خودان باوہران ناکہن، جوہی ہندہک ژ وان  
 پشتهقانییا ہندہکان دکہن، ہہر و ہسا فہلہ ژی، و ہہردو  
 دہستہک ل سہر نہیارہتییا ہہوہ کوم دبن. و ہوین ہیژاترن  
 کو ہندہک ژ ہہوہ پشتهقانییا ہندہکان بکہن. و ہہچیئی ژ  
 ہہوہ وان بو خو بکہتہ سہرکار ئہو دی ژ وان بت،  
 و حوکمی وی حوکمی وانہ. ہندی خودیہ وان زورداران  
 یین کافران بو خو دکہنہ سہرکار سہرراست ناکہت.

شکینہ ری نہ ہی: یی بیروباوہرین ئہو بن کو ہندہک ژ خہلکی دشین ژبن شہریعتی پیغہمبہری صلی اللہ علیہ وسلم دہربکہفن، کا چاوا خہضر شیای ژ بن شہریعتی موسای دہربکہفت سلاف لی بن ، ئہو کافرہ، چونکی ئہو گوتنا خودی ب درہو دہردئیخت ، دہمی دبیزت: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۵۳) الانعام.

و ژ تشتی خودی شیرہت پی ل ہہوہ کری ئہقیہ: کو ہندی ئیسلامہ ریکا خودی یا راستہ قیجا ہوین لی ہہرن، ودویچوونا ریکین بہرزہبوونی نہکن، ئہو دی ہہوہ بڑالہ کن، و ہہوہ ژ ریکا خودی یا راست دویرکن. ئہف بہریخودانا بہر ب ریکا راست فہ ئہوہ یا خودی شیرہت پی ل ہہوہ کری؛ دا بہلکی ہوین ب ریکا بجہئینانا ئہمری وی خو ژ عزاہا وی پیاریزن.

قیجا ہہر کہسی بقیت ژ شہریعتی پیغہمبہری صلی اللہ علیہ وسلم دہربکہفت یان ہزر بکہت کو بی پیدقیہ ژ شہریعتی وی، بی گومان وی کنفی ئیسلامی ژستویئ خو کر، و عیسا پیغہمبہر سلاف لی بن دہمی ل دوماہیا زہمانی دہیتہ خاری، شہریعتہکی نوی نا ئینت، بہلکو دی دیچوویئ شہریعتی پیغہمبہری بت صلی اللہ علیہ وسلم، قیجا شہریعتی وی صلی اللہ علیہ وسلم دی بہردہوام بت

ههتا پروژا قیامهتی ، و بو گشت خه لکی ، و کهسی  
پهچنابت ژ بن دهر بکهفت.

خودایی بلند دبیزیت: (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ  
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (۸۵) ال عمران.

وههچیئی دینهکی ژ بلی ئیسلامی داخواز بکهت، وئیسلام  
ئوه مروّف ب تهوحیدی وگوهداریئی خو تهسلیمی خودی  
بکهت، و باوه ریئی ب پیغمبری دویمایی موهممهدی  
سلاف لی بن بینت، و دوچوونا وی بکهت، و قهشارتی  
وئاشکرا ئهو بقیت، ههچیئی دینهکی دی داخواز بکهت ئهو  
دین ژ وی نائیته قهبولکرن، وئهل ئاخرهتی ژ زیانکارانه  
ئهوین پشک وبارین خو ژ دهست داین.

شکینه‌ری ده‌هی: پشت دان وروی وهرگیرانا ژ دینی خودی، نه خو فیردکته، ونه کاری پی دکته، خودایی بلند دبیریت: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِنَآئِیْتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِیْنَ مُنتَقِمُونَ (۲۲) السجدة.

وکهس ژ وی زوردارتر نینه یی ب نایه‌تین خودی شیرهت لی بینه‌کرن، پاشی ئەو پشت بدهته وی ههمیی، ووجه‌کی بو خو ژئی نه‌گرت، و خو دفنبلند بکته، هندی ئەمین ئەم تۆلی ژ وان تاونباران دستینین یین پشت ددهنه نایهت وده‌لیلین خودی، ومفای بو خو ژئی وهرنه‌گرن.

ومهرم ژپشت دان وروی وهرگیرانی ئەوه پشت بدهته فیربوونا بنه‌مایین دینی یین مروف ب وان دبیته مؤسلمان.

و " ابن القیم " خودی دلوقانیی پی ببهت دبیرت:

هندی کوفرا مه‌زنتره پینج جورن: پاش به‌حس کرن وگوت: هندی کوفرا پشت دان وروی وهرگیرانی یه، ئەوه ب گۆهی خو و ب دلی خو پشت بدهته پیغهمبهری صلی الله علیه وسلم نه وی راست ب دهر بیخت و نه ژئی ب دره و، ونه حهز ژئی بکته و نه دوژمناهییا وی بکته، وگۆهی خو نادهته وی یا ئەو پی هاتی ب ئیکجاری (مدارج السالکین (۱/ ۳۶۶ - ۳۶۷).

وشیخی نيسلامى موحه ممدی کوری عبدالوهاب خودی دلو فانی پی ببهت دبیژت: وچ جیوازی دناقبهرا فان ههمی شکینهرا ن دا؟ نینه کو مروث ب یاری و سوحبهت فه بیژت یان ژدل وب مهرم ، یان ژترسان بت مروقی کوتهکی لی هاتیه کرن "مکره" تینهبت خودایی بلند دبیژت: (.. **إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ** .. (۱۰۶) النحل.

ئهو تی نهبت یی کوتهکی لی هاتییه کرن کو ب نهمانی خو کوفری بیژت، قیجا ژ ترسا مرنی دا ئهو کوفری بیژت ودلی وی ل سهر باوه ریی یی موکم بت، ئهوی چو لومه ل سهر نینه.

وئهفه ههمی ژى گهلهک ب مهترسی نه، وپتر خهلهک توش دبنی ، قیجا یا فه ره بو موسلمانى ئهو یی ژى هشیاربت و ژ نهفسا خو بترسیت کو توش بیتی ، ئهم خو ب خودی دپاریزین ژ وان تشتین غزهبا وی فه رکهن وهروهسا ژ دژواریا سزایی وی (مجموعه التوحید (ص ۳۹))

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،  
وعلى آله وصحبه أجمعين..

شیخان شیخہ میری

روژا پینچ شہمی

سیزدهی صہفہ را سالہ ۱۴۴۴ ہج

ز ۲۰۲۲/۹/۸